

Juz 2 Part 1

PRACTICE WORDS SURAH AL BAQARAH 142-152

| | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| کس چیز نے پھیر دیا ان کو | مَا + وَلَا + هُمْ | مَا وَلَا هُمْ |
| پھر جاتا ہے۔ | يَنْقَلِبُ | يَنْقَلِبُ |
| دونوں ایڑیوں اپنی | عَقَبَيْهِ | عَقَبَيْهِ |
| کہ ضائع کر دیں | لِيُضِيعَ | لِيُضِيعَ |
| ہم دیکھ رہے ہیں | نَرَى | نَرَى |
| چہرہ آپ کا | وَجْهِكَ | وَجْهِكَ |
| پس ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو | فَلَنَوَلِّينَاكَ | فَلَنَوَلِّينَاكَ |
| آپ پسند کرتے ہیں جسے | تَرْضَاهَا | تَرْضَاهَا |
| خواہشوں کی ان کی | أَهْوَاءَهُمْ | أَهْوَاءَهُمْ |
| وہ پہچانتے ہیں اسے | يَعْرِفُونَهُ | يَعْرِفُونَهُ |
| شک کرنے والوں میں | الْمُتَمَرِّينَ | الْمُتَمَرِّينَ |
| منہ کرتا ہے اس کی طرف | مَوْلِيَهَا | مَوْلِيَهَا |
| پس سبقت حاصل کرو | فَاسْتَبِقُوا | فَاسْتَبِقُوا |
| پس نہ تم ڈرنا ان سے | فَلَا تَخْشَوْهُمْ | فَلَا تَخْشَوْهُمْ |
| ڈرنا مجھ سے | اِخْشَوْنِي | اِخْشَوْنِي |
| پس یاد کرو مجھے | فَاذْكُرُونِي | فَاذْكُرُونِي |

PRACTISE WORDS AL BAQARAH AYAH 153-162

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| تم سمجھتے ہو | تَشْعُرُونَ | تَشْعُرُونَ |
| البتہ ہم آزمائیں گے ضرور تمہیں | لَنَبْلُوَنَّكُمْ | لَنَبْلُوَنَّكُمْ |
| پہنچتی ہے انہیں | أَصَابَتْهُمْ | أَصَابَتْهُمْ |

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| لوٹ کر جانے والے ہیں | رَاجِعٌ + وَنْ | رَاجِعُونَ |
| وہ طواف کرے | يَ + طَوَّفَ | يَطُوفُ |
| لعنت کرتا ہے ان پر | يَ + لَعَنَ + هُمْ | يَلْعَنُهُمْ |
| ہلکا کیا جائے گا | يَ + خَفَّفَ | يُخَفِّفُ |
| وہ مہلت دینے جائیں گے | يَ + نَظَرَ + وَنْ | يُنْظَرُونَ |

PRACTISE WORDS AL BAQARAH AYAH 163-167

| | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| اور معبود تمہارا | وَ + إِلَهٌ + كُمْ | وَالْإِلَهُكُمْ |
| پھر زندہ کرتا ہے | فَ + أَحْيَا | فَأَحْيَا |
| وہ محبت رکھتے ہیں جن سے | يُ + حَبُّونَ + هُمْ | يُحِبُّونَهُمْ |
| جیسی کہ محبت | كَ + حَبِّ | كَحَبِّ |
| تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے | فَ + نَ + تَ + بَرَّأَ | فَتَبَرَّأَ |
| وہ دکھائے گا انہیں | يَ + رِي + هُمْ | يُرِيهِمْ |
| سے نکلنے والے وہ | بِ + خَارِجٍ + يَنْ | بِخَارِجِينَ |

PRACTISE WORDS AL BAQARAH 168-176

| | | |
|--------------|----------------------|-------------|
| پایا ہم نے | أَلْفَيْنَا | أَلْفَيْنَا |
| وہ پکارتا ہے | يَ + نَعَقَ | يَنْعَقُ |
| وہ سنتا ہے | يَ + سَمِعَ | يَسْمَعُ |
| وہ کھاتے ہیں | يَ + أَكَلُوا + وَنْ | يَأْكُلُونَ |
| پیٹوں اپنے | بُطُونٍ + هُمْ | بُطُونِهِمْ |

PRACTISE WORDS AL BAQARAH 177-182

| | | |
|----------|----------------|-------------|
| تم پھیرو | تُ + وَلُّوا | تَوَلُّوا |
| منہ اپنے | وُجُوهُ + كُمْ | وُجُوهُكُمْ |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------|
| محبّت اسکی | حُبّ + هـ | حُبّه |
| پورا کرنے والے | ال + مُؤفُون | المُؤفُون |
| تنگدستی | ال + بَأْسَاءِ | البَأْسَاءِ |
| بدلے آزاد کے | بِ + ال + حُرّ | بِالْحُرّ |
| آسانی ہے | | تَخْفِيفٌ |
| وصیت کرنے والے کی | | مُوصٍ |
| طرف داری | | حَنَفًا |

PRACTISE WORDS AL BAQARAH 183-188

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| طاقت رکھتے ہیں اس کی | يُطِيقُ + وْن + هُ | يُطِيقُونَه |
| حق و باطل میں فرق | ال + فُرْقَانِ | الْفُرْقَانِ |
| تو چاہئے کہ روزے رکھے اس کے | فَ + لَ + يَصُمُّ + هُ | فَلْيَصُمَّهُ |
| تاکہ پوری کر لو تم | لَ + تُكْمِلُ + وَا | لِتُكْمِلُوا |
| تاکہ تم بڑائی بیان کرو | لَ + تُكَبِّرُ + وَا | لِتُكَبِّرُوا |
| سوال کریں آپ سے | سَأَلَ + كَ | سَأَلَكَ |
| پکارتا ہے مجھے | دَعَا + ا + نِ | دَعَانِ |
| پھر چاہیے کہ حکم مانیں | فَ + لَ + يَسْتَجِيبُ + وَا | فَلْيَسْتَجِيبُوا |
| تم خیانت کرتے تھے | تَخْتَانُ + وَنْ | تَخْتَانُونَ |
| مباشرت کرو ان سے | بَاشِرُ + و + هُنَّ | بَاشِرُوهُنَّ |
| سواب | فَ + اَل + َّ + نَ | قَالَ َّ نَ |
| تم قریب جاؤ ان کے | تَقْرَبُ + و + هَا | تَقْرَبُوهَا |

PRACTICE WORDS AL BAQARAH AYAH 189-199

| | | |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| وہ پوچھتے ہیں آپ سے | يَ + سَأَلُ + وَنْ + كَ | يَسْأَلُونَكَ |
|---------------------|-------------------------|---------------|

| | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| وہ لڑیں تم سے | ي + قَاتِلُ + وْنَ + كُمْ | يُقَاتِلُونَكُمْ |
| پاؤ تم ان کو | تَقِفُ + تُمْ + هُمْ | تَقِفْتُمُوهُمْ |
| روک دیے جاؤ تم | أَحْصِرُ + تُمْ | أُحْصِرْتُمْ |
| منڈاؤ | تَحْلِقُ + وَا | تَحْلِقُوا |
| سراپنے | رُءُوسَ + كُمْ | رُءُوسَكُمْ |
| جگہ اپنی | مَحِلَّ + هُ | مَحِلَّهُ |
| لوٹو تم | رَجَعُ + تُمْ | رَجَعْتُمْ |
| زا دراہ لے لیا کرو | تَزُودُ + وَا | تَزُودُوا |
| اے اہل عقل | يَا + أَوْلَى + اَلْ + أَلْبَابِ | يَا أَوْلَى الْأَلْبَابِ |
| واپس آؤ تم | أَفْضُ + تُمْ | أَفْضْتُمْ |

PRACTISE WORDS AL BAQARAH 200-213

| | | |
|----------------------|--------------------|---------------|
| پورے کر چکو تم | قَضَى + تُمْ | قَضَيْتُمْ |
| حج کے ارکان اپنے | مَنَاسِكَ + كُمْ | مَنَاسِكَكُمْ |
| جیسے یاد کرتے تھے تم | كَ + ذِكْرُ + كُمْ | كَذِكْرِكُمْ |
| تم جمع کیے جاؤ گے | تُ + حَشْرُ + وْنَ | تُحْشَرُونَ |
| پسند آتی ہے آپ کو | يُعْجِبُ + كَ | يُعْجِبُكَ |
| سو کافی ہے اس کے لیے | فَ + حَسْبُ + هُ | فَاحْسِبُهُ |
| ٹھکانہ | اَلْ + مِهَادُ | الْمِهَادُ |
| پھسل گئے تم | رَزَلُ + تُمْ | رَزَلْتُمْ |
| بادل | اَلْ + غَمَامِ | الْغَمَامِ |
| وہ تمسخر کرتے ہیں | ي + سَخَرُ + وْنَ | يَسْخَرُونَ |

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| غالب ہوں گے ان پر | فَوْقُ + هُمْ | فَوْقَهُمْ |
| پھر بھیجے | فَ + بَعَثَ | فَبَعَثَ |
| کمایا اس نے | كَسَبَ + تَ | كَسَبَتْ |
| کمایا تم نے | كَسَبَ + تُمْ + ۞ | كَسَبَ تُمْ ۞ |
| تم سے پوچھا جائے گا | تُ + سَأَلُونَ | تُسْأَلُونَ |
| ہم فرق کرتے ہیں | نُ + فَرَقَ | نُفَرِّقُ |
| عنقریب وہ کافی ہو گا تجھے | فَسَ + يَ + كَفِيَ + كَ + هُمْ | فَسَيَكْفِيكَهُمْ |
| انکے مقابلے میں | فَسَيَكْفِيكَ هُمْ | فَسَيَكْفِيكَهُمْ |
| کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے | أَ + تَ + حَاجُّ + وْنَ + نَا | أَتَحَاجُّونَنَا |
| عمل ہمارے | أَعْمَلُ + نَا | أَعْمَلُنَا |